



# Empowered Learning

• EDINBURGH •  
THE CITY OF EDINBURGH COUNCIL

CGI

## ذمہ دار استعمال کا معاہدہ

- میں صرف وہی ڈیوائسز استعمال کروں گا/گی جن کے استعمال کی میرے استاد یا ذمہ دار بالغ فرد نے اجازت دی ہے۔
- میں صرف تب ہی ڈیوائسز استعمال کروں گا/گی جب میرے استاد یا ذمہ دار بالغ فرد مجھ سے ایسا کرنے کو کہیں۔
- میں تمام ڈیوائسز کا احترام کروں گا/گی۔
- میں اسکول کی جانب سے انسٹال کیے گئے پروگرام کبھی نہیں مٹاؤں گا/گی، ماسوائے یہ کہ اسکول کی جانب سے تحریری اجازت دی جائے۔

ڈیوائسز  
استعمال  
کرنا



- میں اپنے اسکول کی دی گئی تمام رہنما ہدایات کی پیروی کروں گا/گی۔
- میں تمام یوزرنیمز اور پاسورڈز کو محفوظ اور نجی رکھوں گا/گی۔
- میں صرف اپنی لاگ ان تفصیلات استعمال کروں گا/گی (یا وہ جو مجھے میرے استاد مہیا کریں) اور میں کبھی وہ تفصیلات کسی اور کو نہیں بتاؤں گا/گی۔
- اگر میں مشترکہ ڈیوائس استعمال کر رہا/ری ہوں تو میں یقینی بناؤں گا/گی کہ کام مکمل کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کروں۔
- میں صرف اپنے استاد یا ذمہ دار بالغ فرد کی اجازت سے ایپس اور ویب سائٹس تک رسائی حاصل کروں گا/گی۔
- میں ضرورت کے مطابق اپنی شناخت محفوظ رکھنے کے لئے نک نیمز (کنینٹین) اور اوتار استعمال کروں گا/گی۔

خود کو  
محفوظ  
رکھنا



- میں اپنے اور دوسروں کے متعلق ذاتی معلومات کو نجی رکھوں گا/گی۔
- میں صرف اجازت لے کر تصاویر/ویڈیوز/فائلز شیئر کروں گا/گی۔
- میں کسی کی واضح اور صاف اجازت کے بغیر ان کی تصاویر یا ویڈیوز نہیں بناؤں گا/گی۔
- میں کچھ بھی پوسٹ کرنے/بھیجنے سے پہلے سوچوں گا/گی (درست، مددگار، متاثر کن، ضروری، مہربان)۔
- میں ہر وقت احترام اور ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا/گی۔
- میں صرف اپنی تعلیم/نگہداشت میں شامل افراد سے بات کروں گا/گی۔
- میں صرف اپنی تعلیم کے متعلق معلومات تقسیم یا شیئر کروں گا/گی۔
- اگر مجھے اپنی ڈیوائس میں کسی 'پاپ اپ'، ہائپر لنک، ای میل یا کسی مشکوک چیز کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہ ہو تو کلک کرنے سے پہلے اپنے استاد یا ذمہ دار بالغ فرد سے مدد طلب کروں گا/گی۔
- جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ فائل کس نے بھیجی ہے اور وہ محفوظ ذریعہ ہے، تب تک میں فائل نہیں کھولوں گا/گی۔
- میں مشتبہ نظر آنے والے پیغامات یا ای میلز کا جواب نہیں دوں گا/گی اور انہیں فارورڈ نہیں کروں گا/گی۔
- میں جان بوجھ کر بدخواہ سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا/گی اور نہیں پھیلاؤں گا/گی۔

اچھا سائبر  
شہری بننا





- میں یقینی بناؤں گا/گی کہ جب آن لائن ویڈیو پر مبنی آن لائن تعلیم دی جا رہی ہو تو میرے گھرانے کو اس بارے میں معلوم ہو۔
- آن لائن رہتے ہوئے میں مناسب مقام یا پس منظر استعمال کروں گا/گی۔
- میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے میٹنگ چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہو یا میرے گھر میں کوئی مجھے میٹنگ چھوڑنے کو کہے تو میں کسی بھی وقت ایسا کر سکتا/سکتی ہوں۔
- اگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئے یا سنائی دے جو مجھے یا میرے والد/والدہ/نگہداشت کنندہ کے لئے پریشان کن ہو تو میں فوری طور پر اپنے استاد یا اسکول کے عملے کے کسی اور رکن کو بناؤں گا/گی۔
- میں یقینی بناؤں گا/گی کہ کام مکمل ہونے کے بعد میٹنگ 'بند' کروں یا اس سے 'خارج' ہوں۔
- میں اپنی اسکرین پر نظر آ سکنے والے نوٹیفیکیشنز یا پاپ اپس بند کروں گا/گی۔
- اگر مجھ سے گفتگو میں حصہ لینے کو کہا جائے تو اس کے لئے میں 'ہاتھ اٹھانے' کا فنکشن استعمال کروں گا/گی۔
- ہر ویڈیو یا آڈیو میٹنگ میں، میں اپنا استاد یا ذمہ دار بالغ فرد کی جانب سے اپنا مائکروفون میوٹ کرنے یا کیمرہ بند کرنے کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کروں گا/گی۔

## گھر پر ڈیوائس شیئر کرنا

اگر آپ اپنے گھر کی مشترکہ ڈیوائس، جیسا کہ اسمارٹ فون، آئی پیڈ/ٹیبلٹ یا گھریلو ڈیسک ٹاپ/لیپ ٹاپ پر مائکروسافٹ 365 یا اسکول کے دیگر آن لائن تعلیمی وسائل تک رسائی حاصل کر رہے ہوں:

- ہمیشہ محفوظ پاسورڈ یا پاس کوڈ کے ذریعے ڈیوائس تک رسائی کو کنٹرول کریں۔
- مائکروسافٹ 365 تک رسائی کے لئے مجوزہ براؤزر استعمال کریں - ایج، کروم، سفاری یا فائر فاکس۔
- اضافی سکیورٹی کے لئے اپنے براؤزر میں [پاسورڈ محفوظ کرنے](#) کو آف کریں۔
- جب آپ مائکروسافٹ 365 میں کام کرنا بند کریں تو اپنے براؤزر سے لاگ آؤٹ کرنا اور/یا اسے بند کرنا یقینی بنائیں۔
- جب ڈیوائس استعمال نہ کی جا رہی ہو تو اسے لاگ/لاگ آف کرنا یقینی بنائیں۔

## ڈیجیٹل تحفظ کے وسائل



<https://www.saferinternet.org.uk>

<https://5rightsfoundation.com>

<https://www.thinkuknow.co.uk>

براہ کرم صفحہ 3 پر موجود فارم مکمل کریں اور ایسے اسکول میں واپس کریں۔



# Empowered Learning

•EDINBURGH•  
THE CITY OF EDINBURGH COUNCIL

CGI

## Responsible Use Agreement

### ذمہ دار استعمال کا معاہدہ

<i>I agree to abide by the terms of this agreement</i> میں اس معاہدے کی شرائط کی پیروی کرنے سے متفق ہوں	<b>Learner Agreement</b> لرنر (سیکھنے والے) کا معاہدہ
	Name نام
	Key Adult Group / Class کلیدی بالغ گروپ / کلاس
	Signature دستخط
	Date تاریخ

<i>I agree to my child accessing appropriate digital resources in line with the terms of this agreement</i> میں اس معاہدے کی شرائط کے مطابق اپنے بچے کے مناسب ڈیجیٹل وسائل تک رسائی سے متفق ہوں	<b>Parent/Carer Agreement</b> والد/والدہ/نگہداشت کنندہ کا معاہدہ
	Name نام
	Signature دستخط
	Date تاریخ